

اپل آگھے پیر جیز نے جبٹ کے اہم پارٹ 'سیل سلیپ' پر ریسرچ شائع کی ہے
اپل آگھے ریسرچ نے 'سیل سلیپ' تحقیق شائع کی
فل آولیا کی مدد سے

لائق لافٹ ٹرپ کی ریسرچ ٹیم کے لوگ ایسی تحقیقات کے نتائج شائع کرتے
رہتے ہیں جن سے جبٹ کا علاج ہو سکے۔ یہ نئی تحقیق انکی کوششوں کو ایک
سمت صین پر جائیگی۔

ڈاکٹر انیتی دیونگ کی بیماری اور ڈاکٹر ماریا دیپک ریچر نے 20 جون
کو کینس ریسرچ پر آن لائن تحقیق شائع کی۔ جملی وجہ سے 'ڈریم کلبکس'
پر ایمینیب کے اثر پر مستقبل صین ہونے والے علاج کیلئے تحقیق کا نیا لامسا
کھل لگایا ہے۔

'ڈریم کلبکس' نئی چھوٹے یونٹ کلبکس کا مجموعہ ہے۔ جو کہ سیلوں کو سلانے (کیوینس)
لئے ایک 100 اور 140 ایجنسٹ ہے۔

کیو سنر (صلوں کا سون) سیلوں کی سیلوں کا بڑھنا بڑا ہو جائے مگر موجود ہے کو
کہتے ہیں۔ ح لآنکہ کینس سیل کو ختم ہو جانا جا سہے (روائی کا اثر ہے۔ یہ زیادہ ترجیب
ہوتا ہے جب صریعن کا علاج ایمینیب سے ہو۔

پیر جیز نے ڈریم کلبکس بنانے والے کینس (یعنی ڈی وائے آر کے 112) پر
قابل پاکر ڈریم کلبکس کی پیداوار لوکی۔ جملی وجہ سے وہ ایمینیب سے
سلوں کا خاتمہ تیز کرنے میں کامیاب ہو گے۔ اسکو اس طرح جی کر سکتے

ہیں کہ ایمینسپ کا علاج زیادہ خالدہ ملدا ہو گی اسکے وجہ سے۔

ڈاکٹر دیوبنگ کا تعلق یونیورسٹی آف پیٹس برگ کینس انٹیبیوٹ سے اور ڈاکٹر دیوبنگ کا تعلق نیویارک یونیورسٹی آف نیو یونیورسٹی سے ہے۔

جبلہ تحقیق دیوبنگ ییارٹری میں ہوئی۔ دیوبنگ ریچٹر نے اسے زینوگرا فٹ تحقیق کے ذریعے مدد کی (جمیں والا ایکسپرٹ ہیں)۔ دیوبنگ ییارٹری کا مقصد علاج کو موثر بنانا ہے۔

ہمارے آر جی ریسچ ٹیم کی ایک سیریز مذکورہ کرنے کے مقصد کو اجاگر کرتا ہے۔ جو کہ مل کر ہر ایک ایکسپرٹ سے مفت ہونا ہے۔

دیوبنگ نے کہا تحقیق ٹیم کا ایک دوسرے کے ساتھ چاننا صیری ییارٹری کے لیے انتہائی امام ہے۔ جمیں ایسی تحقیقات کی لئے جو صین اکیلے ہیں کہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ ٹھہر کے جیٹ کے سیل کو سلا فنا ناصرف ییارٹری میں بلکہ انسانی جسم میں بھی۔ ماریا کی مدد سے ممکن ہوا۔

انہوں نے ڈالنا۔ فاربر کینس انٹیبیوٹ کی گزشتہ تحقیق ڈریم کیلیکس تحقیق کا بھی حوالہ دیا۔

تحقیقی مصالحہ: جبکہ اہم لامکٹر ایس بوچل کا تعلق دیوبنگ نے یہ سے ہے ملکہ گھٹا کھل۔ ”ڈریم کیلیکس ہیڈ یونیورسٹی سیل کو سین ایڈٹری از اے نافل ہر سینکڑا رکھتے تو انہاں سے ایمینسپ انڈیوسٹری ایپنے گوئیں“

حوالہ کیلئے